



سوال

(597) امت مسلمہ میں شرک کا وجود

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس حدیث سے کیا مراد ہے؟

«والذاتُ اثنا عشرَ علیہم انْ تُشرکوا بعدی» البخاری 1344 و مسلم (2296)

"اللہ کی قسم مجھ پسے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں"

شرکیہ عقائد کے حامل بعض لوگ اس حدیث کو بطور دلیل استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک ہو ہی نہیں سکتا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس حدیث میں امت کے شرک میں مبتلا ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے موجود رہیں گے جو شرک سے بچنے والے ہوں گے۔ جبکہ کچھ لوگ شرک بھی کریں گے، جیسا کہ خود نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے:

«لا تقوم الساعة حتى تمح قبائل من امتی بالمشرکین حتی تبع قبائل من امتی بالاذنان»

"قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں اور یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت نہ کریں۔"

اس حدیث میں بھی امت کے افراد میں شرک کے پائے جانے کا واضح ثبوت ہے اور اس کو قرب قیامت کے ساتھ خاص قرار دینا حدیث میں معنوی تخریفات کے مترادف ہے۔

دوسری جگہ آپ نے فرمایا:

«لا تقوم الساعة حتى تظفر بآيات نساء ذؤب علی ذی النخلة» البخاری 7116 و مسلم 2906

اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینیں ذی النخلة بت کے گرد طواف نہیں کریں گی۔



اس حدیث میں بھی امت کے افراد میں شرک کے پائے جانے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

فرمان الہی ہے :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ أَهْمُ الْأَمِنِينَ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ۚ سورة الانعام

"وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان اور وہی راہ پر ہیں۔"

اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے جس کی وضاحت نبی کریم ﷺ نے فرمائی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں :

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ "جن مومنین نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا" تو صحابہ کرام اس آیت سے بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: "ہم میں سے کون شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا؟" رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے (جو تم سمجھے) بلکہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: "اے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔"

یہ آیت ایمان والوں سے متعلق ہے۔ اسی لیے صحابہ نے اسے اپنے متعلق سمجھ کر پریشانی کا اظہار کیا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ظلم کے مفہوم کو واضح کیا اور امت میں شرک کے وجود کو رد نہیں فرمایا بلکہ باقی رکھا اور نہ ہی اسے قرب قیامت کے ساتھ خاص قرار دیا۔ لہذا اس آیت میں شرک اکبر کی بات ہے اور امت میں اس کے وجود کا اثبات بھی۔

مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے بعض افراد میں شرک کا وقوع ہوگا، اگرچہ عمومی طور پر ساری امت اس میں مبتلا نہ ہوگی۔

بہارِ معذیبی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

کتاب الصلاة جلد 1